

## جدہ میں رہنے والوں کے لیے طوافِ وداع کا حکم

مجیب: ابوالفیضان مولانا عرفان احمد عطاری

فتویٰ نمبر: WAT-3007

تاریخ اجراء: 21 صفر المظفر 1446ھ / 27 اگست 2024ء

### دارالافتاء اہلسنت

(دعوتِ اسلامی)

### سوال

کیا جدہ میں رہنے والوں کے لئے الوداعی طواف واجب ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جدہ میں رہنے والے کے لیے حج کے بعد الوداعی طواف واجب نہیں، کیونکہ طوافِ وداعِ آفاقی (یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے) حاجی پر واجب ہوتا ہے اور جدہ میقات کی حدود سے باہر نہیں۔

طوافِ وداع کس پر واجب ہے؟ اس کے متعلق لباب و شرح لباب میں ہے ”طواف الوداع (ہو واجب علی

الحاج الآفاقی) ای دون المکی والمیقاتی“ ترجمہ: طوافِ وداعِ آفاقی حاجی پر واجب ہے، مکی و میقاتی حاجی پر واجب نہیں۔ (لباب و شرح لباب، باب طواف الصدر، ص 355، مطبوعہ: پشاور)

در مختار میں ہے ”(وہو واجب لإعلى أهل مكة) ومن في حكمهم فلا يجب“ ترجمہ: اہل مکہ اور جو ان کے حکم میں ہیں یعنی میقات کے اندر رہنے والے، ان پر طوافِ وداع واجب نہیں۔ (در مختار مع رد المحتار، کتاب الحج، ج 2، ص 523، دار الفکر، بیروت)

طوافِ وداع کے وقت کے متعلق لباب و شرح لباب میں ہے ”(واما وقته فاوله بعد طواف الزيارة فلو طاف بعد الزيارة طوافاً) ای طواف کان (یکون عن الصدر)۔۔۔ (ولوفی یوم النحر)۔۔۔ (ولا آخر له)

۔۔۔ (ویستحب ان يجعله) ای طواف الصدر (آخر طوافه عند السفر) ای واقعا عند العزم علی خروجہ و ارادة مباشرة سفره“ ترجمہ: طوافِ صدر کا وقت: طوافِ صدر کا اول وقت طوافِ زیارت کے بعد ہے، تو

کسی نے طوافِ زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کیا تو وہ طوافِ صدر ہی واقع ہوگا اگرچہ یوم نحر کو کرے، اور اس کا آخری وقت مقرر نہیں، اور حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے سفر کا آخری طواف، طوافِ صدر کرے یعنی جب مکہ

مکرمہ سے نکلنے و سفر کا ارادہ کرے تو طوافِ صدر کرے۔ (لباب و شرح لباب، باب طوافِ الصدر، ص 356، 355، مطبوعہ  
پشاور)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



دارالافتاء  
DARUL IFTA AHLESUNNAT

**Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)